

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا کچھ اقرار دیا جا سکتا ہے۔ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے پھلکوں کو ڈھنگ سے لٹکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماحول کی فلاحیت بڑھتی ہے

Translation 2022

Every era brings many ^{issues} with it which are not ~~likeable~~ ^{liked by} for everyone but everyone has to accept them. Sometimes nature ^{puts/places} ~~test~~ many things in front of us ~~getting~~ ^{do not mean} something ~~in front~~ which ~~are~~ ^{doesn't} meant to us; ~~rather~~ ^{nor} we ~~don't~~ have any relation with ~~it~~ ^{them} but still we have to make it a part of our life. The same is going on today ^E every century brings such changes ^{that are} which were newer than previous ^{century}. The development of Natural Science and Arts ^{a lot} gave a lot to man that can be considered as a waste of scientific and economic process. Nature give us fruits but at the same time it make us responsible to depose its peels properly if not done properly environment undoubtedly increase.

Avoid cutting.